

بی سی سی ڈی سی (BCCDC) کی جانب سے عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اے 1 ہربل آیورویڈک کلنک سری سے خریدی گئی اشیا کو تلف کر دیں۔

BCCDC advises public to discard products purchased from A1 Herbal Ayurvedic Clinic in Surrey

جنوری 28 ، 2019



بی سی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول (BCCDC) برٹش کولمبیا کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اے 1 ہربل آیورویڈک کلنک سری سے خریدی گئی اشیا کو رد کر دیں، کیونکہ ان [آیورویڈ والی](#) اشیا میں سیسہ اور پارہ پایا گیا ہے اور ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے انہیں بیچنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

فریزر ہیلتھ نے معائینے کے بعد پبلک ہیلتھ ایکٹ کے تحت اے 1 ہربل آیورویڈک کلنک، سری، جو بی سی میں 128 Street 8430 - 31# پر واقع ہے، کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ہیلتھ کینیڈا نے مصنوعات، جزویات اور ساز و سامان کو کلنک سے قبضہ میں لے لیا ہے اور وہ [عوام کو](#) انتباہ کر رہے ہیں کہ یہ شدید خطرات کا باعث ہو سکتی ہیں۔

ان اشیا کے استعمال سے شدید بیماری یہاں تک کہ موت تک ہو سکتی ہے۔ BCCDC اس کلنک کے ایک ایسے گاہک کو جانتی ہے جو کہ سیسہ کے زہر سے بیمار ہوا ہے۔

اگر آپ نے اس کلنک سے اشیا خریدی ہیں، اور آپ کو اپنی صحت کے بارے میں فکر ہے تو، برائے مہربانی ڈاکٹر سے ملنے اور انہیں بتائیے کہ آپ کونسی اشیا استعمال کرتے رہے ہیں۔ بی سی کا ڈرگ اینڈ پوائزن انفرمیشن سینٹر [Drug and Poison Information Centre](#) آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کسی بھی تشخیص یا علاج کام کرنے کے لئے حاضر ہے۔

سیسہ کے زہر [Lead Poisoning](#) کی علامات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

- خون کی کمی
- سر درد / چڑچڑاہٹ / سوچ میں سستی
- قبض
- معدے کا درد
- حمل گرنا / مردہ بچے کی پیدائش

اکثر ایورویدک اور دیگر روایتی علاج کی اشیا اور جزویات باہر کے ممالک سے منگوائے جاتے ہیں۔ جبکہ بہت سی اشیا محفوظ طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں، کچھ میں ایسے جزو ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے بتائے نہیں گئے ہوتے یا وہ لیبل میں شامل نہیں ہوتے، جس سے یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوں گے۔

اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر روایتی علاج کے لئے گئی اشیا کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو برائے مہربانی ڈاکٹری توجہ حاصل کیجئے اور اپنے ڈاکٹر کو تمام بتائیے کہ آپ کونسے ہیلتھ پرائیکٹ لے رہے ہیں۔ آپ کسی بھی ہیلتھ پرائیکٹ کے بارے میں [Adverse Events](#) یا [Complaints](#) پر ہیلتھ کینیڈا کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔

ہیلتھ کینیڈا کی [Risk Advisory](#) پڑھیے۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی فریزر ہیلتھ کے سرے ہیلتھ پروٹیکشن آفس کو 604) 930-5405 local 765612 پر فون کیجئے۔

بی سی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول (BC Centre for Disease Control) پرووینشل ہیلتھ سروسز اتھارٹی (Provincial Health Services Authority) کا ایک حصہ ہے جو پبلک ہیلتھ کی سربراہی؛ نگرانی، معلومات حاصل کرنا، علاج، روک تھام اور مشاورت کی خدمات کے ذریعہ کرتا ہے۔ یہ سینٹر عوامی صحت کے لئے اہم بیماریوں کی تشخیص اور علاج کی خدمات مہیا کرتا ہے، اور تجزیاتی اور پالیسی کی خدمات تمام درجوں کی گورنمنٹ اور ہیلتھ اتھارٹیز کو مہیا کرتا ہے۔ یہ BCCDC صحت کی بہتری اور بچاؤ کی خدمات بھی مہیا کرتا ہے تاکہ دائمی بیماریوں اور بچائے جا

سکنے والے زخموں کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ مزید کے لئے، [www.bccdc.ca](http://www.bccdc.ca) پر جائیے یا ہمیں ٹوٹر (Twitter) [@CDCofBC](https://twitter.com/CDCofBC) پر پیروی دیجئے۔

پروینشل ہیلتھ سروسز اتھارٹی (PHSA) پانچ جغرافیائی ہیلتھ اتھارٹیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے؛ چنی ہوئی مخصوص اور صوبہ بھر کی ہیلتھ کیئر کی خدمات بی سی میں منصوبہ بندی، انتظام اور اندازے کے ساتھ مہیا کرتی ہے تاکہ تمام صوبے میں ایسے حل دئیے جائیں جن سے برٹش کولمبیا کے لوگوں کی صحت بہتر ہو سکے۔ مزید معلومات کے لئے، [www.phsa.ca](http://www.phsa.ca) پر جائیے یا ہمیں ٹوٹر (Twitter) [@PHSAofBC](https://twitter.com/PHSAofBC) پر پیروی دیجئے۔

**میڈیا کے لئے رابطہ:**

**Media contact:**

Heather Amos

BCCDC Communications

604-707-2412

یا PHSa media line: 778-867-7472

Heather amos@phsa.ca